

## ROOTWORDS OF SURAH YUNUS 6-20

دَعَوَى+هُم	تَحِيَّتْ+هُم	مَأْوَى+هُم	أَطْمَأَنُّوا	يَرْجُونَ
د ع و+ ضمير	ح ي ي+ ضمير	أ و ي+ ضمير	ط م ن	ر ج و
پکار+ان کی	دعائے خیر+ان کی	ٹھکانہ+ان کا	مطمئن ہو گئے	امید
Their call	Their greeting	their abode	feel satisfied	expect

ف+نَذَرُ	يَعْمَهُونَ	أَجَلُ+هُم	أَسْتَعْجَلُ+هُم	يُعَجِّلُ
حرف+و ذ ر	ع م ہ	أ ج ل+ ضمير	ع ج ل+ ضمير	ع ج ل
تو+ ہم چھوڑ دیتے ہیں	وہ بھٹکتے پھرتے ہیں	مہلت+ان کی	جلدی مانگنا+ان کا	جلدی دے دے
But We leave	wandering blindly	In justice	He hastens for them	hastens

مَرَّ	كَشَفْنَا	قَاعِدًا	لِ+جَنَّبِ+هَـ	مَسَّ
م ر ر	ک ش ف+ ضمير	ق ع د	حرف+ج ن ب + ضمير	م س س
چلا جاتا ہے	ہٹا دیتے ہیں+ ہم	بیٹھے ہوئے	لئے+ کروٹ پر+ اپنی	چھو جاتی
he passes on	We remove	sitting	(lying) on his side	touches

أَدْرَىٰ + كُمْ	تَلَوْتُ + هُوَ	عَصَىٰ + تُ	تَلَقَّيْ	يَرْجُونَ
د ر ي + ضمير	ت ل و + ضمير	ع ص ي + ضمير	ل ق ي	ر ج و
خبر دیتا + تم کو	میں پڑھتا + اس کو	نافرمانی کی + میں نے	طرف	امید رکھتے
He (would) have made it known to you	I (would) have recited it	I were to disobey	my own accord	hope

الْمُنْتَظِرِينَ	سَبَقَتْ	عُمُرًا	لَبِثْتُ + تُ
ن ظ ر	س ب ق	ع م ر	ل ب ث
انتظار کرنے والوں	جو گزر گئی	ایک عمر تک	ٹھہرا رہا + میں
the ones who wait	(that) preceded	a lifetime	I have stayed